



سوال

(608) امام کے سجدہ سہونہ کرنا

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

شافعیہ کے نزدیک امام سجدہ سہونہ کرے تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد مقتدی سجدہ سہو کر لے۔ حنفیہ کے سوا سب یہی کہتے ہیں بشمول حافظ ابن حزم رحمہ اللہ۔

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

حنفیہ کے نزدیک اس کی وجہ یہ ہے کہ مقتدی کی نماز کی بنا امام کی تکبیر تحریمہ پر ہے تو چونکہ اس نے سجدہ سہو نہیں کیا لہذا مقتدی بھی نہ کرے۔ اس صورت میں راجح بات یہ ہے کہ مقتدی کو سجدہ سہو کر دینا چاہئے۔ ملاحظہ ہو: فتح الباری: ۱۸۸/۲۔

هذا ما عندي والله أعلم بالصواب

فتاویٰ حافظ ثناء اللہ مدنی

کتاب الصلوٰۃ: صفحہ: 530

محدث فتویٰ